



## جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے، جو اسے پسند نہیں کرتے، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسے پگھلا کر ڈالا جائے گا

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے، جو اسے پسند نہیں کرتے، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسے پگھلا کر ڈالا جائے گا“

[صحیح] [امام بخاری نے اسی کے مثل روایت کی ہے]

اس حدیث میں ان لوگوں کے خلاف سخت وعید وارد ہوئی ہے، جو ایسے لوگوں کی گفتگو کان لگا کر سنتے ہیں، جو اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی گفتگو سنیں۔ دراصل یہ عمل ان بدترین اخلاق میں سے ہے جن کا شمار، کبیرے گناہوں میں ہوتا ہے۔ چونکہ اصول یہ ہے کہ عمل کا بدلہ اسی کی جنس سے دیا جائے؛ اس لیے اس نے جن کانوں کے ذریعے یہ تکلف لوگوں کی گفتگو سنی، انہیں کانوں میں اس کو عذاب دیا جائے گا اور ان میں پگھلا ہوا سیسے ڈالا جائے گا۔ نیز اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گفتگو کرنے والے کسی صحیح غرض کی بنا پر بات سننے دینے کو ناپسند کرتے ہوں یا بلا کسی سبب؛ کیوں کہ بعض لوگوں کو یہ بات گراں گزرتی ہے کہ کوئی ان کی بات سننے؛ چاہے گفتگو میں کسی قسم کا عیب یا حرام بات اور کوئی سبب نہ ہو، لیکن پھر بھی ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ان کی بات نہ سنے۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5374>



النجانة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

